

ترجمة وتفسير معاني كلمات القرآن الكريم

Part : 49

Taubah & Yunus

100 words

☆ عربی معنی السراج المنیر سے لیا گیا ہے، اردو محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ کے ترجمے کو بنیاد (base) بنا کر لیا گیا ہے اور انگلش صحیح انٹرنیشنل سے لیا گیا ہے۔

☆ The Arabic meanings and explanations have been taken from Assiraj Almuneer, the Urdu meanings have been taken from the translation of Muhammad Junagadi rahmatullaah alaih and the English meanings have been taken from Sahih International.


شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

 *+91 92906 21633 (whatsapp only)*

سورة التوبة

مدنية / ترتیبها 9 / آیاتھا 129

سورتوں کی کمی اور مدنی کی نشاندہی صحف مدینہ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

1

**Quranic
word**

مَغَارَاتٍ

**Arabic
Meaning**

كهوفا في الجبال

**English
Meaning**

Some caves

**Urdu
Meaning**

کوئی غار
Koi ghaar

1101

**Quranic
word**

مُدَّ خَلًّا

**Arabic
Meaning**

نفقا

**English
Meaning**

Any place to enter

**Urdu
Meaning**

کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ
Koi bhi sar ghusaane ki jagah

**Quranic
word**

يَجْمَحُونَ

**Arabic
Meaning**

يسرعون

**English
Meaning**

They run heedlessly

**Urdu
Meaning**

وہ لگام توڑ کر بھاگ چھوٹیں
Wo lagaam tod kar bhaag chhutein

**Quranic
word**

يَلْمِزُكَ

**Arabic
Meaning**

يعيبك

**English
Meaning**

Who criticize you

**Urdu
Meaning**

جو آپ پر عیب رکھتے ہیں
Jo aap par aeb rakhte hain

**Quranic
word**

حَسْبُنَا اللَّهُ

**Arabic
Meaning**

كافينا الله

**English
Meaning**

Sufficient for us is Allaah

**Urdu
Meaning**

اللہ ہمیں کافی ہے
Allaah hamein kaafi hai

**Quranic
word**

لِلْفُقَرَاءِ

**Arabic
Meaning**

للذين لا يملكون شيئاً

**English
Meaning**

For the poor

**Urdu
Meaning**

فقیروں کے لئے
Faqero ke liye

**Quranic
word**

وَالْمَسَاكِينِ

**Arabic
Meaning**

الذين يملكون دون كفايتهم

**English
Meaning**

And for the needy

**Urdu
Meaning**

اور مسکینوں کے لئے
Aur miskeeno ke liye

**Quranic
word**

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

**Arabic
Meaning**

السعاة الذين يجمعون الزكاة

**English
Meaning**

Those employed to collect [zakah]

**Urdu
Meaning**

اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے
Aur inke wasool karne waalo ke liye

**Quranic
word**

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

**Arabic
Meaning**

من يرجى إسلامهم، أو دفع شرهم

**English
Meaning**

For bringing hearts together
[for Islam]

**Urdu
Meaning**

تالیف قلب
Taleef e qalb

**Quranic
word**

الرِّقَابِ

**Arabic
Meaning**

عتق الأرقاء، وفكك الأسرى

**English
Meaning**

Freeing captives [or slaves]

**Urdu
Meaning**

گردن چھڑانے میں
Gardan chhudane mey

**Quranic
word**

وَالْغَارِمِينَ

**Arabic
Meaning**

المدينين، ومن غرموا لإصلاح ذات البين

**English
Meaning**

For those in debt

**Urdu
Meaning**

اور قرضدار
Aur qarzdaar

**Quranic
word**

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

**Arabic
Meaning**

في الجهاد

**English
Meaning**

And for the cause of Allaah

**Urdu
Meaning**

اور اللہ کی راہ میں
Aur Allaah ki raah mey

**Quranic
word**

وَابْنِ السَّبِيلِ

**Arabic
Meaning**

المسافر، المنقطع

**English
Meaning**

The traveler

**Urdu
Meaning**

اور مسافروں کے لئے
Aur musafiryo ke liye

**Quranic
word**

أُذُنٌ

**Arabic
Meaning**

يستمع لكل ما يقال له، فيصدقه

**English
Meaning**

An ear

**Urdu
Meaning**

کان کا کچا
Kaan ka kacha

**Quranic
word**

وَيُؤْمِنُ لِّلْمُؤْمِنِينَ

**Arabic
Meaning**

يصدق المؤمنين فيما يخبرونه

**English
Meaning**

And believes the believers

**Urdu
Meaning**

اور مسلمانوں (کی بات) کا یقین کرتا ہے
Aur musalmano ki baat ka yaqeen karta hai

**Quranic
word**

يُحَادِدِ

**Arabic
Meaning**

يشاق ويخالف

**English
Meaning**

Whoever opposes

**Urdu
Meaning**

جو مخالفت کرے گا
Jo mukhalafat karega

**Quranic
word**

حَسْبُهُمْ

**Arabic
Meaning**

کافیہم

**English
Meaning**

It is sufficient for them

**Urdu
Meaning**

انہیں کافی ہے
Inhe kaafi hai

**Quranic
word**

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ

**Arabic
Meaning**

فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا

**English
Meaning**

They enjoyed their portion

**Urdu
Meaning**

پس وہ ان کا دینی حصہ برت گئے
Pas wo inka deeni hissa barat gae

**Quranic
word**

وَأَخْضْتُمْ

**Arabic
Meaning**

دخلتم في الكذب والباطل

**English
Meaning**

you engaged

**Urdu
Meaning**

تم نے بھی مذاقانہ بحث کی
Tumne bhi mazaqaana bahes ki

**Quranic
word**

حَبَطْتُ

**Arabic
Meaning**

بطلت

**English
Meaning**

Have become worthless

**Urdu
Meaning**

غارت ہوئی
Ghaarat huwi

**Quranic
word**

وَالْمُؤْتَفِكَاتِ

**Arabic
Meaning**

قری قوم لوط، سمیت بذلك؛ لأن الله قلبها عليهم

**English
Meaning**

The towns overturned

**Urdu
Meaning**

اور اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے)
Uti huwi bastiyo ke rahne waale

**Quranic
word**

عَدْنِ

**Arabic
Meaning**

إقامة

**English
Meaning**

Perpetual residence

**Urdu
Meaning**

ہمیشہ ہمیش رہنے والے
Hamesha hamesh rahne waale

**Quranic
word**

نَقَمُوا

**Arabic
Meaning**

کرہوا، وعابوا

**English
Meaning**

And they were not resentful

**Urdu
Meaning**

انتقام لے رہے ہیں / وہ ناپسند کئے
Inteqaam lerahe hain / wo naapasand kiye

**Quranic
word**

فَأَعْقَبَهُمْ

**Arabic
Meaning**

فصير عاقبتهم وجزاءهم

**English
Meaning**

So He penalized them

**Urdu
Meaning**

پس (اللہ نے) انہیں سزا دیا
Pas Allaah ne inhe saza diya

**Quranic
word**

يَلْمِزُونَ

**Arabic
Meaning**

يعيبون

**English
Meaning**

Who criticize

**Urdu
Meaning**

جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں
Jo log ta'na zani karte hain

**Quranic
word**

الْمُطَوِّعِينَ

**Arabic
Meaning**

الذين يتطوعون بالصدقة بالمال الكثير

**English
Meaning**

The contributors

**Urdu
Meaning**

جو دل کھول کر (خیرات کرتے ہیں)
Jo dil khol kar khairaat karte hain

**Quranic
word**

بِمَقْعَدِهِمْ

**Arabic
Meaning**

بقعودهم

**English
Meaning**

Their staying [at home]

**Urdu
Meaning**

اپنے بیٹھے رہنے پر
Apne baithe rahne par

**Quranic
word**

خِلَافٍ

**Arabic
Meaning**

مخالفين

**English
Meaning**

Behind

**Urdu
Meaning**

خلاف
Khilaaf

**Quranic
word**

الْخَالِفِينَ

**Arabic
Meaning**

المتخلفين عن الجهاد

**English
Meaning**

Who stay behind

**Urdu
Meaning**

پچھے رہ جانے والے
Peeche rah jaanē waale

**Quranic
word**

أُولُو الطُّوْلِ

**Arabic
Meaning**

أصحاب الغنى والسعة

**English
Meaning**

Those of wealth

**Urdu
Meaning**

دولت مند
Daulat mand

**Quranic
word**

الْخَوَالِفِ

**Arabic
Meaning**

القاعدين، المتخلفين؛ من النساء،
والصبيان، وأصحاب الأعدار

**English
Meaning**

Those who stay behind

**Urdu
Meaning**

خانہ نشین عورتیں
Khaana nasheen aurtein

**Quranic
word**

وَوَطَّبِعَ

**Arabic
Meaning**

ختم

**English
Meaning**

Were sealed over

**Urdu
Meaning**

مہر لگادی گئی
Mohar lagadi gai

**Quranic
word**

الْمُعَذِّرُونَ

**Arabic
Meaning**

المعتذرون

**English
Meaning**

Those with excuses

**Urdu
Meaning**

عذر والے
'uzr waale

**Quranic
word**

الضُعَفَاءِ

**Arabic
Meaning**

كالشيوخ

**English
Meaning**

The weak

**Urdu
Meaning**

ضعيفوں
Za'eefo

**Quranic
word**

حَرْجٌ

**Arabic
Meaning**

ألم

**English
Meaning**

Any discomfort

**Urdu
Meaning**

کوئی حرج
Koi harj

**Quranic
word**

نَصَحُوا لِلَّهِ

**Arabic
Meaning**

أخلصوا لله، ولم يشبطوا، وعلم الله من قلوبهم
أنهم لولا العذر لجاهدوا

**English
Meaning**

They are sincere to Allah

**Urdu
Meaning**

وہ اللہ کی خیر خواہی کرتے رہیں
Wo Allaah ki khair khwahi karte rahein

**Quranic
word**

لِتَحْمِلَهُمْ

**Arabic
Meaning**

لتجد لهم دواب يركبونها للجهاد

**English
Meaning**

That you might give them
mounts

**Urdu
Meaning**

تا کہ آپ انہیں سوار کر دے (آپ انہیں سواری مہیا کر دیں)
Taake aap inhe sawari muhayya kardein

**Quranic
word**

تَفِيضٌ

**Arabic
Meaning**

تسيل

**English
Meaning**

Overflowed (with tears)

**Urdu
Meaning**

وہ آنسو بہاتے ہیں
Wo aanso bahaate hain

**Quranic
word**

السَّبِيلُ

**Arabic
Meaning**

الإثم، واللوم

**English
Meaning**

Cause [for blame]

**Urdu
Meaning**

راه الزام
Raahe ilzaam

**Quranic
word**

الْخَوَالِفِ

**Arabic
Meaning**

النساء، والصبيان

**English
Meaning**

Those who stay behind

**Urdu
Meaning**

خانہ نشین عورتیں
Khaana nasheen aurtein

**Quranic
word**

لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ

**Arabic
Meaning**

لَنْ نَصَدِّقَكُمْ

**English
Meaning**

Never will we believe you

**Urdu
Meaning**

ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے
Ham kabhi tumko sachha na samjhenge

**Quranic
word**

انْقَلَبْتُمْ

**Arabic
Meaning**

رجعتم

**English
Meaning**

You returned

**Urdu
Meaning**

تم واپس لوٹے
Tum waapas laute

**Quranic
word**

رَجَسٌ

**Arabic
Meaning**

خبثاء البواطن

**English
Meaning**

Impure

**Urdu
Meaning**

بالکل گندے
Bilkul gande

**Quranic
word**

الْأَعْرَابُ

**Arabic
Meaning**

سكان البادية

**English
Meaning**

The desert-arabs

**Urdu
Meaning**

دیہاتی لوگ
Dehati log

**Quranic
word**

وَأَجْدَرُ

**Arabic
Meaning**

أحق، وأحرى

**English
Meaning**

More likely

**Urdu
Meaning**

اور زیادہ لائق ہے
Aur zyada laeq hai

**Quranic
word**

مَغْرَمًا

**Arabic
Meaning**

غرامة، وخسارة

**English
Meaning**

As a loss

**Urdu
Meaning**

جرمانہ
Jurmaana

**Quranic
word**

وَيَتَرَبَّصُّ

**Arabic
Meaning**

ينتظر

**English
Meaning**

And await for

**Urdu
Meaning**

اور وہ انتظار کرتے ہیں
Aur wo intezaar karte hain

**Quranic
word**

الدَّوَابِّرِ

**Arabic
Meaning**

الحوادث والآفات

**English
Meaning**

Misfortune (time)

**Urdu
Meaning**

برے وقت
Bure waqt

**Quranic
word**

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ

**Arabic
Meaning**

دعاء بالشر والعذاب يدور عليهم

**English
Meaning**

Upon them will be a misfortune
of evil

**Urdu
Meaning**

بر وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے
Bura waqt in hi par padne waala hai

**Quranic
word**

مَرَدُّوا

**Arabic
Meaning**

لجوا فيه، واستمروا عليه، ودربوا

**English
Meaning**

They have become accustomed

**Urdu
Meaning**

(نفاق پر) اڑے ہوئے ہیں
Nifaaq par ade huwe hain

**Quranic
word**

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

**Arabic
Meaning**

ترفعهم بها عن منازل المنافقين

**English
Meaning**

You purify them by it

**Urdu
Meaning**

اور آپ ان کو پاک صاف کر دیں
Aur aap inko paak saaf kardein

**Quranic
word**

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

**Arabic
Meaning**

ادع لهم بالمغفرة

**English
Meaning**

And invoke [Allah 's blessings]
upon them

**Urdu
Meaning**

اور ان کے لئے دعا کیجئے
Aur inke liye dua kijiye

**Quranic
word**

سَكَنُ لَهُمْ

**Arabic
Meaning**

رحمة، وطمأنينة لهم

**English
Meaning**

Reassurance for them

**Urdu
Meaning**

ان کے لئے موجب اطمینان ہے
Inke liye mujib e itminaan hai

**Quranic
word**

مُرْجُونَ

**Arabic
Meaning**

مؤخرون

**English
Meaning**

Deferred (people)

**Urdu
Meaning**

جن کو تاخیر دی گئی
Jinko takheer di gai

**Quranic
word**

ضِرَارًا

**Arabic
Meaning**

مضارة للمؤمنين

**English
Meaning**

For causing harm

**Urdu
Meaning**

ضرر پہنچانے
Zarar pahunchaane

**Quranic
word**

وَأَرْصَادًا

**Arabic
Meaning**

انتظارا

**English
Meaning**

As a station

**Urdu
Meaning**

اور گھات کی جگہ
Aur ghaat ki jagah

**Quranic
word**

شَفَا

**Arabic
Meaning**

طرف

**English
Meaning**

The edge

**Urdu
Meaning**

کنارے پر
Kinaare par

**Quranic
word**

جُرْفٍ هَارٍ

**Arabic
Meaning**

حفرة متداعية للسقوط

**English
Meaning**

A cliff that is about to tumble

**Urdu
Meaning**

کسی گھاٹی گرنے والا
Kisi ghaati girne waala

**Quranic
word**

رَيْبَةٌ

**Arabic
Meaning**

شكاً، ونفاقاً

**English
Meaning**

Skepticism

**Urdu
Meaning**

شک کی بنیاد پر
Shak ki bunyaad par

**Quranic
word**

تَقَطَّعَ قُلُوبَهُمْ

**Arabic
Meaning**

بالموت، أو بالندامة والتوبة

**English
Meaning**

Their hearts are stopped

**Urdu
Meaning**

مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں
Magar inke dil hi agar paash paash hojaein

**Quranic
word**

وَمَنْ أَوْفَى

**Arabic
Meaning**

لا أحد أوفى

**English
Meaning**

And who is truer

**Urdu
Meaning**

اور کون پورا کرنے والا
Aur kaun poora karne waala

**Quranic
word**

فَاسْتَبَشِّرُوا

**Arabic
Meaning**

أظهروا السرور

**English
Meaning**

So rejoice

**Urdu
Meaning**

پس تم خوشی مناؤ
Pas tum Khushi manao

**Quranic
word**

السَّابِحُونَ

**Arabic
Meaning**

الصائمون

**English
Meaning**

Those who fast/the traveler

**Urdu
Meaning**

روزہ رکھنے والے (یا راہ حق میں سفر کرنے والے)

Roza rakhne waale (ya raahе haq mey safar karne waale)

**Quranic
word**

سَاعَةَ الْعُسْرَةِ

**Arabic
Meaning**

وقت الشدة، والمراد: غزوة تبوك

**English
Meaning**

The hour of difficulty

**Urdu
Meaning**

تنگی کے وقت
Tangi ke waqt

**Quranic
word**

يَزِيغُ

**Arabic
Meaning**

يميل

**English
Meaning**

It deviates

**Urdu
Meaning**

وہ پھیر جائیں
Wo pher jaein

**Quranic
word**

بِمَا رَحْبَتِ

**Arabic
Meaning**

مع رحبها وسعتها

**English
Meaning**

In spite of its vastness

**Urdu
Meaning**

اپنی فراخی کے باوجود
Apni farakhi ke bawajood

**Quranic
word**

وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

**Arabic
Meaning**

بأن لا يرضوا بالراحة لأنفسهم مع تعبہ -
صلی اللہ علیہ وسلم

**English
Meaning**

They not prefer themselves over his
self

**Urdu
Meaning**

وہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز نہیں سمجھتے ہیں
Wo apni jaan ko unki jaan se Azeez nahi samajhte hain

**Quranic
word**

نَصَبٌ

**Arabic
Meaning**

تعَب

**English
Meaning**

Fatigue

**Urdu
Meaning**

تھکان
Thakaan

**Quranic
word**

مَحْمَصَةٌ

**Arabic
Meaning**

مِجَاعَةٌ

**English
Meaning**

Hunger (in the cause of Allah)

**Urdu
Meaning**

بھوک
Bhook

**Quranic
word**

يَغِيظُ

**Arabic
Meaning**

يغضب، ويغم

**English
Meaning**

He angers

**Urdu
Meaning**

وہ غصہ ہوتا ہے
Wo ghussa hota hai

**Quranic
word**

نَيْلًا

**Arabic
Meaning**

قتلا، أو هزيمة، أو أذى

**English
Meaning**

Any infliction

**Urdu
Meaning**

کوئی چیز / کوئی تکلیف
Koi cheez / koi takleef

**Quranic
word**

لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

**Arabic
Meaning**

ليخرجوا للجهاد جميعا

**English
Meaning**

To go forth [to battle] all at once

**Urdu
Meaning**

تا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں
Taake sab ke sab nikal khade ho

**Quranic
word**

الَّذِينَ يَلُونَكُمْ

**Arabic
Meaning**

القريبين منكم

**English
Meaning**

Those adjacent to you

**Urdu
Meaning**

جو تمہارے آس پاس ہیں
Jo tumhare aas paas hain

**Quranic
word**

مَرَضٌ

**Arabic
Meaning**

شك، ونفاق

**English
Meaning**

Disease

**Urdu
Meaning**

روگ
Rog

75

**Quranic
word**

رَجَسًا

**Arabic
Meaning**

نفاقا وشكا

**English
Meaning**

Evil

**Urdu
Meaning**

گندگی
Gandagi

1175

**Quranic
word**

يُفْتَنُونَ

**Arabic
Meaning**

يبتلون بالقحط والشدة، وإظهار ما يطنونه
من النفاق

**English
Meaning**

They are tried

**Urdu
Meaning**

وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں
Wo log aazmae jaate hain

**Quranic
word**

عَزِيزٌ

**Arabic
Meaning**

صعب، وشاق عليه

**English
Meaning**

Grievous

**Urdu
Meaning**

نہایت گراں
Nihayat giraa

**Quranic
word**

مَا عَنِتُّمْ

**Arabic
Meaning**

عنتم، ومشقتكم

**English
Meaning**

What you suffer

**Urdu
Meaning**

تمہارے نقصان کی بات
Tumhare nuqsaan ki baat

**Quranic
word**

حَسْبِي

**Arabic
Meaning**

كافي

**English
Meaning**

Sufficient for me

**Urdu
Meaning**

کافی
Kaafi

سورة يونس

مكية / ترتيبها 10 / آياتها 109

سورتوں کی کمی اور مدنی کی نشاندہی صحف مدینہ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

**Quranic
word**

قَدَمَ صِدْقٍ

**Arabic
Meaning**

أَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَمُوا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ

**English
Meaning**

A respectable position

**Urdu
Meaning**

پورا اجر و مرتبہ
Poora ajr o martaba

**Quranic
word**

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

**Arabic
Meaning**

علا على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته

**English
Meaning**

Established Himself above the
Throne

**Urdu
Meaning**

وہ عرش پر قائم ہوا
Wo arsh par qaem huwa

**Quranic
word**

بِالْقِسْطِ

**Arabic
Meaning**

بالعدل

**English
Meaning**

In justice

**Urdu
Meaning**

انصاف کے ساتھ
Insaaf ke saath

**Quranic
word**

حَمِيمٌ

**Arabic
Meaning**

ماء بالغ غاية الحرارة

**English
Meaning**

Scalding water

**Urdu
Meaning**

کھولتا ہوا پانی
Khawalta huwa paani

**Quranic
word**

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ

**Arabic
Meaning**

صير القمر ذا منازل يسير فيها

**English
Meaning**

And determined for it phases

**Urdu
Meaning**

اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں
Aur iske liye manzilein muqarrar kein

**Quranic
word**

اِخْتِلَافٍ

**Arabic
Meaning**

تعاقب

**English
Meaning**

The alternation

**Urdu
Meaning**

یکے بعد دیگرے آنے میں
Yake baad deegare aanemey

**Quranic
word**

دَعْوَاهُمْ

**Arabic
Meaning**

دَعَاؤُهُمْ

**English
Meaning**

Their call

**Urdu
Meaning**

ان کی دعا
Unki dua

**Quranic
word**

يَعْمَهُونَ

**Arabic
Meaning**

یترددون حائرین

**English
Meaning**

They are wandering blindly

**Urdu
Meaning**

وہ بھٹکتے رہتے ہیں
Wo bhatakte rahte hain

**Quranic
word**

لِجَنْبِهِ

**Arabic
Meaning**

مضطجعا

**English
Meaning**

On his side

**Urdu
Meaning**

ليٹے ہوے
Lete huwe

**Quranic
word**

مَرَّ

**Arabic
Meaning**

استمر علی کفره

**English
Meaning**

He continues [in disobedience]

**Urdu
Meaning**

وہ ایسا ہو جاتا ہے (وہ چل پڑا)
Wo aisa hojaata hai (wo chal pada)

**Quranic
word**

الْقُرُونِ

**Arabic
Meaning**

الأمم المكذبة

**English
Meaning**

Generations

**Urdu
Meaning**

گروہوں
Giroho

**Quranic
word**

جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ

**Arabic
Meaning**

استخلفناكم من بعد إهلاكهم

**English
Meaning**

We made you successors

**Urdu
Meaning**

ہم نے تم کو جانشین کیا
Hamne tumko jaanasheen kiya

**Quranic
word**

تَلَقَّاءِ نَفْسِي

**Arabic
Meaning**

من قبل نفسي

**English
Meaning**

It on my own accord

**Urdu
Meaning**

اپنی طرف سے
Apni taraf se

**Quranic
word**

أَدْرَأَكُم

**Arabic
Meaning**

أعلمكم

**English
Meaning**

He have made (it) known to
you

**Urdu
Meaning**

تم کو اطلاع فرماتا
Tum ko ittela farmaata

**Quranic
word**

الفَلَكِ

**Arabic
Meaning**

السفن

**English
Meaning**

The ships

**Urdu
Meaning**

کشتیاں
Kashtiyaa

**Quranic
word**

عَاصِفٌ

**Arabic
Meaning**

شديدة الهبوب

**English
Meaning**

A stormy

**Urdu
Meaning**

سخت جھونکا
Sakht jhonka

**Quranic
word**

يَبْغُونَ

**Arabic
Meaning**

يفسدون

**English
Meaning**

They commit injustice

**Urdu
Meaning**

وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں
Wo sarkashi karne lagte hain

**Quranic
word**

زُخْرُفَهَا

**Arabic
Meaning**

بَهْجَتَهَا وَنِضَارَتَهَا

**English
Meaning**

Its adornment

**Urdu
Meaning**

اپنی رونق
Apni raunaq

**Quranic
word**

حَصِيدًا

**Arabic
Meaning**

محصودة، مقطوعة

**English
Meaning**

As a harvest

**Urdu
Meaning**

صاف کر دیا (کٹا ہوا)
Saaf kardiya (kata huwa)

**Quranic
word**

لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ

**Arabic
Meaning**

لم تكن قائمة بالأمس

**English
Meaning**

It had not flourished yesterday

**Urdu
Meaning**

کل وہ موجود ہی نہ تھی
Kal wo maujood hi na thi

100

**Quranic
word**

دَارِ السَّلَامِ

**Arabic
Meaning**

الجنة

**English
Meaning**

The Home of Peace

**Urdu
Meaning**

سلامتی کے گھر
Salamati ke ghar

1200